

JUZ 8 - PART 2



SURAH AL-A'RAF AYAH 1-87
ROOT WORDS

Translation	ROOT	Word	AYAH
قیلولہ کر رہے تھے	ق ی ل	قَائِلُونَ	4
غائب	غ ی ب	غَائِبِينَ	7
زندگی کے سامان	ع ی ش	مَعَايِشَ	10
پس اتر جا	ه ب ط	فَاهِطْ	13
ذلیل ہونے والے	ص غ ر	الصَّاعِرِينَ	
گمراہ کیا تو نے مجھے	غ و ی	أَغْوَيْتَنِي	16
البتہ میں ضرور بیٹھوں گا	ق ع د	لَأَقْعُدَنَّ	
مذمت کیا ہوا	ذ ا م	مَذْمُومًا	18
رحمت سے دور کیا ہوا	د ح ر	مَذْحُورًا	
البتہ میں ضرور بھردوں گا	م ل ا	لَأَمْلَأَنَّ	
تم دونوں چاہو	ش ی ا	سِتْمًا	19
چھپائی گئی تھیں	و ر ی	وُورِي	20
شرمگاہیں ان دونوں کی	س و ا	سَوَاتِهِمَا	
اور اس نے قسم کھائی ان دونوں سے	ق س م	وَقَاسَمَهُمَا	21
اور وہ دونوں شروع ہو گئے	ط ف ق	وَوَطَفَقَا	22
وہ دونوں چپکانے لگے	خ ص ف	يَخْصِفَانِ	
زینت	ر ی ش	رِيشًا	26
اس نے اتروادیا	ن ز ع	يَنْزِعُ	
گمراہی	ض ل ل	الضَّلَالَةَ	30

ایک گھڑی	س و ع	سَاعَةٌ	34
وہ آگے بڑھ سکتے ہیں	ق د م	يَسْتَقْدِمُونَ	
گھڑے	ف ر ی	اَفْتَرَىٰ	37
پہنچے گا انہیں	ن ی ل	يَنَالُهُمْ	
وہ فوت کریں گے انہیں	و ف ی	يَتَوَفَّوْنَهُمْ	
جو گزر چکی ہیں	خ ل و	خَلَّتْ	38
دروازے	ب و ب	أَبْوَابُ	40
داخل ہو جائے	و ل ج	يَلِجُ	
اونٹ	ج م ل	الْجَمَلُ	
ناکے	س م م	سَمَّ	
سونے کے	خ ی ط	الْخِيَاطِ	
بچھونا	م ه د	مِهَادٌ	41
اوڑھنا ہے	غ ش ی	عَوَاشٍ	
کوئی کینہ	غ ل ل	غِلٌّ	43
ان کی علامت سے	س و م	بِسِيمَاهُمْ	46
وہ امید رکھتے ہوں گے	ط م ع	يَطْمَعُونَ	
پھیری جائیں گی	ص ر ف	صُرِفَتْ	47
طرف	ل ق ی	تِلْقَاءَ	
نہ تو کر ہمیں	ج ع ل	لَا تَجْعَلْنَا	
جماعت تمہاری	ج م ع	جَمْعُكُمْ	48
اور دھوکے میں ڈالا ان کو	غ ر ر	وَعَرَّتْهُمْ	51
ہم بھلا دیں گے انہیں	ن س ی	نَنسَاهُمْ	
لائے ہم ان کے پاس	ج ی ء	جِنَانَهُمْ	52

کھول کر بیان کیا ہم نے اسے	ف ص ل	فَصَّنَّاهُ	
وہ انتظار کرتے	ن ظ ر	يَنْظُرُونَ	53
اس کے انجام کا	أ و ل	تَأْوِيلُهُ	
کوئی سفارشی	ش ف ع	مِنْ شَفَعَاءَ	
ہم لوٹائے جائیں	ر د د	نُرَدُّ	
پھر ہم عمل کریں	ع م ل	فَنَعْمَلْ	
وہ گھڑتے	ف ر ی	يَفْتَرُونَ	
وہ بلند ہوا	س و ی	اسْتَوَىٰ	54
تیزی سے	ح ث ث	حَثِيثًا	
عاجزی سے	ض ر ع	تَضَرَّعًا	55
ہواؤں کو	ر و ح	الرِّيَّاحِ	57
وہ اٹھا لیتی ہیں	ق ل ل	أَقْلَّتْ	
چلاتے ہانکتے ہیں ہم اسے	س ق ی	سُقْنَاهُ	
سرداروں نے	م ل أ	الْمَلَأَ	60
میں خیر خواہی کرتا ہوں	ن ص ح	أَنْصَحُ	62
اندھے	ع م ی	عَمِينَ	64
البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے	ر أ ی	لَنَرَاكَ	66
بے وقوفی	س ف ہ	سَفَاهَةٍ	
تو دھمکی دیتا ہے ہمیں	و ع د	تَعِدُنَا	70
کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے	ج د ل	أَتَجَادِلُونَنِي	71
اوٹنی	ن و ق	نَاقَةَ	73
اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں	ب و أ	وَبَوَاكُمُ	74
اس کی نرم مٹی	س ہ ل	سُهُولِهَا	

تم تراشتے ہو	ن ح ت	تَنَحُّتُونَ	
تم فساد کرو	ع ث و	تَعْتَوُوا	
کمزور سمجھے جاتے تھے	ض ع ف	اسْتَضْعَفُوا	75
پس انہوں نے کوچیں کاٹ ڈالیں	ع ق ر	فَعَقَرُوا	77
اور انہوں نے سرکشی کی	ع ت و	وَعَتُوا	
زلزلے نے	ر ج ف	الرَّجْفَةَ	78
اوندھے منہ کرنے والے	ج ث م	جَاثِمِينَ	
پس وہ منہ موڑ کر چلا گیا	و ل ی	فَتَوَلَّى	79
شہوت کے لیے	ش ہ و ش ہ ی	شَهْوَةً	81
کچھ لوگ ہیں	أ ن س	أَنَاسٍ	82
جو بہت پاک بنتے ہیں	ط ہ ر	يَتَطَهَّرُونَ	
اس کی بیوی کے	م ر أ	امْرَأَتَهُ	83
چھپے رہ جانے والے	غ ب ر	الْغَابِرِينَ	
برسائی ہم نے / ایک بارش	م ط ر	أَمْطَرْنَا / مَطَرًا	84